



سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان

- عابد علی، افتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز اور عثمان خان شنواری کی واپسی
- ایک روزہ میچز 27، 29 ستمبر اور 2 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے

لاہور، 21 ستمبر 2019ء:

قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز 27 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کراچی میں جاری رہے گی۔

قومی ٹیم میں 5 کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ عابد علی، افتخار احمد، محمد نواز، محمد رضوان اور عثمان خان شنواری کو قومی ایک روزہ کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔

کمر کے درد میں مبتلا فاسٹ باؤلر حسن علی کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ فاسٹ باؤلر نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ری ہیب پروگرام کا آغاز کریں گے۔

قومی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کا اعلان سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے دوران کیا جائے گا۔ اس دوران ممکنہ اسکواڈ میں شامل دیگر کھلاڑی اکیڈمی کوچز کی زیر نگرانی نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ٹریننگ جاری رکھیں گے۔

مصباح الحق، چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم:

چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے تمام اراکین سے طویل مشاورت کے بعد سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز کے لیے بہترین اسکواڈ کا انتخاب کیا گیا ہے۔

مصباح الحق نے کہا کہ رواں سیزن میں قومی کرکٹ ٹیم کو 50 اوورز پر مشتمل فارمیٹ

میں یہ 3 ایک روزہ میچز ہی کھیلنے ہیں، کوشش ہے کھلاڑی اس طرز کی کرکٹ سے بھرپور فائدہ اٹھاسکیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران مجھے اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ کوئی میچ آسان ہوتا ہے اور نہ کوئی حریف۔ مگر سیزن کے آغاز میں جیت بہت اہم ہوتی ہے۔

قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا تجربے کے ساتھ ساتھ قومی کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافے کا بھی باعث بنے گا۔

مصباح الحق نے کہا کہ ٹیم میں کم بیک کرنے والے پانچوں کھلاڑیوں کا انتخاب ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے بیٹسمین افتخار احمد آف اسپن باؤلنگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بائیں ہاتھ کے بلے بازوں کی اکثریت رکھنے والی سری لنکا کرکٹ ٹیم کے خلاف کپتان سرفراز احمد کے لیے کارگر ثابت ہوسکتے ہیں۔

ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر قومی کرکٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ محمد نواز ٹومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جبکہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عابد علی، محمد رضوان اور عثمان شنواری بدقسمتی سے آئی سی سی ورلڈکپ 2019 کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ نہیں بناسکے تھے۔

مصباح الحق نے کہا کہ سری لنکا کے خلاف سیریز کھلاڑیوں کے لیے مثبت کارکردگی دکھا کر قومی کرکٹ ٹیم کا مستقل رکن بننے کا سبب بن سکتی ہے۔

16 رکنی قومی ایک روزہ کرکٹ ٹیم:

سرفراز احمد (کپتان) (سندھ)، بابر اعظم (نائب کپتان) (سنٹرل پنجاب)، عابد علی (سندھ)، آصف علی (ناردرن)، فخر زمان (خیبرپختونخوا)، حارث سہیل (بلوچستان)، محمد حسنین (سندھ)، افتخار احمد (خیبرپختونخوا)، عماد وسیم (ناردرن)، امام الحق (بلوچستان)، محمد عامر (ناردرن)، محمد نواز (ناردرن)، محمد رضوان (خیبرپختونخوا)، شاداب خان (ناردرن)، عثمان خان شنواری (خیبرپختونخوا) اور وہاب ریاض (سدرن پنجاب)۔

شیڈول:

27 ستمبر: پہلا ایک روزہ کرکٹ میچ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی

29 ستمبر: دوسرا ایک روزہ میچ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی

2 اکتوبر: تیسرا ایک روزہ میچ بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی

5 اکتوبر: پہلا ٹی ٹوٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور

7 اکتوبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور
9 اکتوبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم لاہور

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4